

13262 - یتیموں کو ان کا مال کب دیا جائے

سوال

یتیم کے ولی کو کس وقت یتیم کا مال سپرد کرنا جائز ہوگا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یتیم کے ولی کے لیے اس وقت تک مال یتیم کے سپرد کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس میں رشد و عقل نہ دیکھ لے ، یعنی جب جب یتیم حسن تصرف کرنے لگے اور مال کو حرام میں خرچ نہ کرے تو اس کے سپرد کر دینا چاہیے ، یہ نہیں کہ یتیم کے بالغ ہوتے ہی مال اس کے سپرد کر دیا جائے ، بلکہ بلوغت کے بعد جب تک اس میں حسن تصرف اور ہوشیاری و پختگی نہ دیکھی جائے مال اس کے سپرد نہیں کرنا چاہیے ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے رہو اور آزماتے رہو پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو

یتیم کی بلوغت اس وقت ہوتی ہے جب مندرجہ ذیل اشیاء میں سے کوئی ایک پیدا ہو جائے : زیر ناف بالوں کا اگنا ، عمر کا پندرہ برس ہونا ، سوتے یا بیداری کی حالت میں منی کا انزال ہونا ۔

عورت کی بلوغت کی علامات بھی مرد جیسی ہی ہیں لیکن اس میں دو چیزیں زائد ہونگی اگر ان میں سے کوئی ایک پیدا ہو جائے ، اگر اسے حیض آجائے یا حمل ہو جائے تو عورت بالغ ہوگی ۔

کتاب المقنع میں ہے کہ :

(احتلام یا پندرہ برس عمر کا مکمل ہو جانا یا زیر ناف سخت بال اگنے سے بلوغت ہو جاتی ہے اور لڑکی میں دو چیز اور زیادہ ہونگی وہ حمل ہونے اور حیض آنے کی صورت میں بالغ شمار ہوگی اور حمل اس کے انزال ہونے کی دلیل ہے) دیکھیں : المقنع (2 / 139) ۔